72269-اکیلی رہنے کے خوف سے عدت والی عورت کا میکے منتقل ہونا

سوال

ایک عورت کا خاوند فوت ہوگیا اور وہ کرایہ کے گھر میں رہتی ہے، اس کے میکے والے بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں لیکن گھر ان سے دور ہے، اور اس کا بھائی بھی کام کاج کی بنا پر اس کے گھر آکر نہیں رہ سکتا، اور عورت مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتی، کیا یہ عورت عدت گزارنے کے لیے میکے منتقل ہو سکتی ہے ؟

پسندیدہ جواب

بیوہ عورت کے لیے اپنے اسی گھر میں
عدت گزارنی واجب ہے جس گھر میں رہائش رکھے ہوئے اسے خاوند فوت ہونے کی اطلاع ملی
تھی؛ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے.

کتب سنن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی درج ذیل حدیث مروی ہے کہ :

" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فریعۃ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا :

" تم اسی گھر میں رہو جس گھر میں
تمہیں خاوند فوت ہونے کی اطلاع ملی تھی، حتی کہ عدت ختم ہوجائے.

فریعۃ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں :

چنانچہ میں نے اسی گھر میں چار ماہ
دس دن عدت بسر کی تھی "

سنن ابو داود حدیث نمبر (2300) سنن
ترمذی حدیث نمبر (1204) سنن نسائی حدیث نمبر (200) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (
2031) علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے.

اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اکثر اہل
علم کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنی جان

کا خطرہ ہو یا پھر اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی دوسرا شخص نہ ہو
اور وہ خود بھی اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتی ہو تو کہیں اور عدت گزار سکتی ہے.

ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں :

" بیوہ کے لیے اپنے گھر میں ہی عدت گزارنے
کو ضروری قرار دینے والوں میں عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں، اور
ابن عمر اور ابن مسعود اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی مروی ہے، اور اما
مالک امام ثوری اور امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور اسحاق رحمہم
اللہ کا بھی یہی قول ہے.

ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں :

حجاز شام اور عراق کے فقہاء کرام کی
جماعت کا بھی یہی قول ہے "

اس کے بعد لکھتے ہیں :

" چنانچہ اگر بیوہ کو گھر منہدم ہونے
یا غرق ہونے یا دشمن وغیرہ کا خطرہ ہو... تو اس کے لیے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہونا
جائز ہے؛ کیونکہ یہ عذر کی حالت ہے...

اور اسے وہاں سے منتقل ہو کر کہیں
بھی رہنے کا حق حاصل ہے " انتہی مختصرا

دیکھیں : المغنی (127/8).

مستقل فتوی کمیٹی کے علماء کرام سے
درج ذیل سوال کیا گیا :

ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور
جس علاقے میں اس کا خاوند فوت ہوا ہے وہاں اس عورت کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی
نہیں، کیا وہ دوسرے شہر جا کر عدت گزار سکتی ہے ؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا :

"اگر واقعتا ایسا ہے کہ جس شہر اور
علاقے میں خاوند فوت ہوا ہے وہاں اس بیوہ کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں، اور
وہ خود بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتی تو اس کے لیے وہاں سے کسی دوسرے علاقے
میں جہاں پر اسے اپنے آپ پر امن ہو اور اس کی ضروریات پوری کرنے والا ہو وہاں منتقل
ہونا شرعا جائز ہے" انتہی

دیکھیں : فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث
العلمیۃ والافتا(473/20).

اور فتاوی جات میں یہ بھی درج ہے :

"اگر آپ کی بیوہ بہن کو دوران عدت
اپنے خاوند کے گھر سے کسی دوسرے گھر میں ضرورت کی بنا پر منتقل ہونا پڑے مثلا وہاں
اسے اکیلے رہنے میں جان کا خطرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ دوسرے گھر میں
منتقل ہو کر عدت پوری کریگی" انتہی

دیکھیں : فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث
العلمیۃ والافتاء(473/20).

اس بنا پر اگر یہ عورت اکیلا رہنے سے
ڈرتی ہے، یا پھر گھر کا کرایہ نہیں ادا کر سکتی تو اپنے میکے جا کر عدت گزارنے میں
کوئی حرج نہیں ہے.

واللہ اعلم.